



سوال

(310) جو شخص مکمل صدقہ فطر ادا نہ کر سکتا ہو...؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جو شخص غربت کی وجہ سے ایک صاع صدقہ فطر نہ دے سکتا ہو، وہ کس قدر صدقہ فطر ادا کرے؟ نصف صاع یا بالکل ادا نہ کرے؟ (سائل) (۳ جولائی ۲۰۰۳ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

لوگوں کو چاہیے کہ غریب آدمی کو صدقہ دین پھر اس سے وہ اپنا صدقہ الفطر ادا کرے کیونکہ صدقہ الفطر واجب ہے۔ حدیث میں لفظ ”فرض“ استعمال ہوا ہے۔ صاحب ”مرعاة المصابیح“ کی رائے کے مطابق اگر پورا صاع ادا نہ کر سکتا ہو تو نصف صاع بھی کافی ہو سکتا ہے؟

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 286

محدث فتویٰ